



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 19/7/2022

### گورنر HOCHUL کا ریاست بھر کے لیے جنسی ہراسانی ہاٹ لائن شروع کرنے کا اعلان

مفت اور خفیہ ہاٹ لائن کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والے افراد کو قانونی مشورہ فراہم کرے گی

نیو یارک کے باشندے جنسی ہراسانی کے مسائل کے حوالے سے عوامی فلاح کے لیے دستیاب اٹارنیز سے رابطہ قائم کرنے کے لیے 1-800-HARASS-3 پر کال کر سکتے ہیں۔

گورنر Kathy Hochul نے آج کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے مسائل کے لیے ریاست بھر میں ایک ہاٹ لائن، 1-800-HARASS-3 (1-800-427-2773)، شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس خفیہ ہاٹ لائن کو نیو یارک اسٹیٹ ڈویژن آف ہیومن رائٹس چلانے گی اور یہ جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والے کارکنوں کا عوامی فلاح کے لیے دستیاب تجربہ کار اٹارنیز سے مشورہ لینے کے لیے رابطہ قائم کرے گی۔

"ہر کارکن اپنے آپ کو جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے وسائل تک رسائی کا مستحق ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "نیو یارک کی ریاست نے کام کی جگہ کو محفوظ، زیادہ باعزت، اور زیادہ باہمی تعاون پر مبنی بنانے کا اقدام کیا ہے، اور ہم متاثرین والوں کی مدد اور جنسی ہراسانی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے سے کبھی نہیں رکیں گے۔"

"جنسی ہراسانی نہ صرف توہین آمیز اور بعض صورتوں میں خوفناک ہے، یہ اکثر اپنے متاثرین میں یہ احساس چھوڑ سکتی ہے کہ ان کے پاس اپنی فریاد لے جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔" لیفٹیننٹ گورنر Antonio Delgado نے کہا۔ "یہ نئی ہاٹ لائن کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے متاثرین کو مدد اور قانونی معاونت تک رسائی کے لیے واضح جگہ فراہم کرے گی۔"

مارچ میں، گورنر Hochul نے ڈویژن کو اس ہاٹ لائن پر عمل درآمد کی ہدایت کرنے والے [قانونی مسودے پر دستخط کیے](#)، اور ساتھ ہی امتیازی سلوک کے متاثرین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے خلاف تحفظات کو مستحکم کیا اور واضح کیا کہ تمام عوامی آجر انسانی حقوق کے قانون کے تابع ہیں۔ یہ کاوش کارکنوں کو جنسی ہراسانی کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے میں مدد کے لیے مفت رہنمائی فراہم کرے گا۔ ڈویژن نے NY کے نیشنل ایمپلائمنٹ لائز ایسوسی ایشن، نیو یارک اسٹیٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کے لیے دستیاب ایسے رضاکار اٹارنیز کو بھرتی کرنے کے لیے کام کیا جو اس کوشش میں حصہ لیں گے۔

ڈویژن آف ہیومن رائٹس کی کمیشنر Maria L. Imperial نے کہا، "جنسی ہراسانی کا تباہ کن اثر پڑتا ہے اور اکیلے اس کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ ہر نیو یارک کا باشندہ انسانی حقوق کے قانون کے تحت اپنے حقوق اور تحفظات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل ہو۔"

نیو یارک کو انسانی حقوق کا قانون نافذ کرنے والی قوم کی پہلی ریاست ہونے کا فخریہ اعزاز حاصل ہے، جو ہر شہری کو "مکمل اور فعال زندگی سے لطف اندوز ہونے کا مساوی موقع" فراہم کرتا ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ ڈویژن آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے قانون کے نفاذ کے ذریعے امتیازی سلوک کو ختم کرنے، ناانصافی کا ازالہ کرنے اور

مساوی مواقع، رسائی اور وقار کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے۔ شکایت درج کرانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد ڈویژن کی ویب سائٹ <https://dhr.ny.gov> پر جا سکتے ہیں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[ان سبسکرائب کریں](#)